

روینہ سینٹوس کو بطور ایڈیشنل ریجنل کونسلر تعینات کر دیا گیا

برامپٹن، آن - آج منعقد ہونے والی خصوصی میٹنگ کے دوران برامپٹن سٹی کونسل نے سٹی کونسلر روینہ سینٹوس (وارڈز 1 اور 5) کو پیل ریجنل کونسل میں 2018-2022 کی مدت کے لیے برامپٹن کی ایڈیشنل ریجنل کونسلر کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔

کونسلر روینہ سینٹوس 6 دسمبر 2018 کو منعقد ہونے والی پیل ریجنل کونسل کی افتتاحی میٹنگ کے دوران ریجنل کونسلر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔

2005 میں صوبائی حکومت نے بل 186 متعارف کروایا تھا جس کی رو سے پیل کونسل میں برامپٹن کی نمائندگی میں ایک ممبر کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ (مینر، 5 ریجنل کونسلرز بمعہ ایک ایڈیشنل کونسلر)۔ ایڈیشنل ریجنل کونسلر کو میونسپل الیکشن کے بعد سٹی کونسل پانچ منتخب شدہ سٹی کونسلرز میں سے منتخب کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ منتخب شدہ شخص سٹی اور ریجنل کونسلر کے طور پر بیٹھتا ہے۔

سٹی کونسل نے دیگر متبادل امکانات پر چھان بین کرنے کے لیے بھی عملہ کو ہدایات جاری کی ہیں تاکہ ایک ہی ایڈیشنل ریجنل کونسلر کو کونسل کی پوری مدت کے لیے منتخب نہ کیا جائے بلکہ کونسل کی پوری مدت کے دوران ایک سے زیادہ کونسلرز (یا اس طرح کے دیگر کسی طریقے سے) متعین کیا جا سکے تاکہ ایک سے زیادہ سٹی کونسلرز کو بطور ایڈیشنل ریجنل کونسلر ذمہ داریاں سنبھالنے کے مواقع میسر آئیں۔

اس کے علاوہ، سٹی کونسلر حرکیت سنگھ کو سٹی کونسل نے متبادل ریجنل کونسلر کے طور پر متعین کیا ہے تاکہ 2018-2022 کی مدت کے دوران ریجن آف پیل کونسل میں برامپٹن ریجنل کونسلر کی عارضی غیر حاضری کی صورت میں وہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔

اقتباسات

"تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک شہر کے طور پر ریجن آف پیل کونسل میں برامپٹن کا ایک انتہائی اہم کردار ہے۔ ریجن میں مضبوط نمائندگی ہونے کی بناء پر برامپٹن ایسے مسائل جو ہمارے شہر کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں مثلاً کمیونٹی پولیس اور سیفٹی، مناسب قیمت رہائش اور ملازمتیں پیدا کرنے کے حوالے سے علاقائی معیشت کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہماری اس قوی اور اضافی آواز کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ کونسلر سینٹوس پالیسی سازی کے اپنے مضبوط تجربے اور برامپٹن کی پالیسی کے کلیدی اجزاء کی سمجھ بوجھ کی مدد سے برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ہماری ٹیم کے اہداف کو تقویت دیں گی۔ مجھے خاص طور پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ برامپٹن سٹی کونسل میں منتخب ہونے والی وہ کینیڈا کی پہلی فلپائن نژاد شہری ہیں۔

- میئر پیٹرک براؤن

"بطور ریجنل کونسلر منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں برامپٹن کے مفادات کی حمایت کرنے کے لیے منتظر ہوں۔ علاقائی ذمہ داریاں بشمول سماجی، رہائشی، پولیس اور پیرامیڈیکس سروسز، پانی اور ویسٹ منیجمنٹ کے پروگرام ہمارے معیار زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور میں پرعزم ہوں کہ ہمارے شہریوں کی آواز کو سنا جائے گا۔"

- ریجنل کونسلر روینہ سینٹوس

30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سیر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگل
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca